



Index Number (if known/applicable): _____

County and Court (if known/applicable): _____

جائیداد رہن رکھنے والے کو نوٹس:

کوویڈ-19 عالمی وبا کے دوران، اگر آپ کی آمدنی کا نقصان ہوا ہے یا اخراجات میں اضافہ ہوا تھا اور آپ مشکلات کا اقرار نامہ فارم پر دستخط کر کے اسے بھیجتے ہیں تو مرتہن قرض خواہ یا دیگر مرہونہ جائیداد کو ضبط کرنے والا فریق کم از کم 31 اگست 2021 تک آپ کی جائیداد کو ضبط نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے مرتہن قرض خواہ یا مرہونہ جائیداد کو ضبط کرنے والے فریق نے آپ کو یہ فارم فراہم کیا تھا تو آپ کے رہن قرض خواہ یا مرہونہ جائیداد کو ضبط کرنے والے فریق کے لیے لازمی ہے کہ وہ آپ کو ایک ڈاک کا پتہ اور ای میل پتہ بھی فراہم کرے جس پر آپ اس فارم کو واپس بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلے سے مرہونہ جائیداد کی ضبطی کی کارروائی کے ماتحت ہیں تو آپ یہ فارم عدالت کو واپس بھیج سکتے ہیں۔ آپ کو اس دستخط شدہ فارم کی ایک نقل یا اس کی تصویر اپنے پاس رکھنی ہوگی۔ تاہم، آپ اب بھی اپنے قرض خواہ کو اپنے واجب الادا یا غیر ادا شدہ رہن کی ادائیگی کے لیے ذمہ دار رہیں گے۔ آپ کو اس بات کا پورے احتیاط کے ساتھ حساب رکھنا ہوگا کہ آپ نے کتنی رقم ادا کی ہے اور آپ کی طرف سے کتنی رقم واجب الادا ہے۔

رہن کا کوویڈ-19 سے متعلق مشکلات کا اقرار نامہ

میں (رہائشی یونٹ کا پتہ) میں واقع جائیداد کا رہن ہوں:

میری بنیادی رہائش گاہ کے بشمول، میری ملکیت میں چاہے بلاواسطہ یا بالواسطہ، دس یا اس سے کم رہائشی رہنے کی یونٹس ہیں۔ مجھے مالیاتی مشکلات کا سامنا ہے، میں درج ذیل میں سے ایک یا زائد وجوہات کی بنا پر اپنے قرضہ کو مکمل طور پر ادا کرنے سے قاصر ہوں:

1. کوویڈ-19 عالمی وبا کے دوران، گھریلو آمدنی میں نمایاں نقصان۔
2. کوویڈ-19 عالمی وبا کے دوران، ضروری کام کو انجام دینے یا متعلقہ صحت کے اثرات سے متعلق اضافی اخراجات میں اضافہ۔

3. کوویڈ19- عالمی وبا کے دوران نگہداشت اطفال سے متعلق ذمہ داریاں یا عمر رسیدہ فرد یا خاندان کے معذور یا بیمار فرد کی نگہداشت کی ذمہ داریاں میری یا میرے گھر کے کسی فرد کی معنی خیز ملازمت یا آمدنی کے حصول یا اپنے اضافی اخراجات کی تلافی کی اہلیت پر منفی طور پر اثر انداز ہوئی ہیں۔

4. کوویڈ19- عالمی وبا کے دوران منتقلی کے اخراجات اور متبادل مکان کو حاصل کرنے کے سلسلے میں مجھے درپیش مشکلات نے مجھے کوویڈ19- عالمی وبا کے دوران کسی دوسرے مکان کا حاصل کرنا مشکل بنا دیا۔

5. کوویڈ19- عالمی وبا سے متعلق دیگر صورت حال نے میری یا میرے گھر کے کسی فرد کی معنی خیز ملازمت یا آمدنی کے حصول کی اہلیت کو منفی طور پر متاثر کیا ہے یا میری گھریلو آمدنی میں کمی یا میرے اخراجات میں معقول حد تک اضافہ کیا ہے۔

6. میرے ایک یا زائد کرائے داروں نے 1 مارچ 2021 سے اپنے کرائے کی ایک بڑی رقم کی عدم ادائیگی کی ہے۔

میرے گھریلو آمدنی کے نقصان یا اخراجات کے بڑھنے کی وجہ سے، کسی بھی سرکاری معاونت بشمول بے روزگاری کا بیمہ یا عالمی وبا کی بے روزگاری کی معاونت، معذوری کا بیمہ یا ادائیگی والی خاندانی چھٹی جو مجھے کوویڈ19- عالمی وبا کے آغاز سے حاصل ہوئی تھی، میری گھریلو آمدنی کے نقصان یا اخراجات میں اضافے کی مکمل طور پر تلافی نہیں کر سکے۔

میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ مجھے اپنے رہن کے معاہدے کی دیگر تمام قانونی شرائط کی پاسداری کرنی لازمی ہے۔ میں مزید یہ سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ اپنے قرضے کی مکمل ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے میرے رہن کے معاہدے کے ذریعے مطلوبہ قانونی فیس، جرمانے یا سود کی ادائیگی مجھ پر لاگو کی جا سکتی ہے یا انہیں مجھ سے وصول کیا جا سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں میرے خلاف مالیتی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ میں اس بات کو بھی سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ اگر میں اپنی چھوٹی ہوئی یا جزوی ادائیگیوں اور قانونی فیس کو ادا نہ کروں تو میرا/میری مرتبہ قرض خواہ یا دیگر مرہونہ جائیداد کو ضبط کرنے والا فریق، 31 اگست 2021 کو یا اس کے بعد میرے خلاف مرہونہ جائیداد کو ضبط کرنے کے لیے کارروائی چلا سکتا/سکتی ہے۔

دستخط کردہ:

علیحدہ حروف میں نام:

دستخط کرنے کی تاریخ:

نوٹس: آپ اس فارم پرتنادیبی قانون کے تابع دستخط کر رہے ہیں اور اسے جمع کرا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فارم میں کوئی بھی ایسا بیان دینا قانون کے خلاف ہے جس کے بارے میں آپ آگاہ ہیں کہ یہ جھوٹا ہے۔